

Urdu - FSC Part 2 Urdu Chapter 4 Online Short Questions Test

Q1. سبق محنت پسند خرد مند کا مرکزی خیال بیان کریں.

Ans 1: کفران نعمت، حسد، بخل، بغض اور خود پسندی ایسی بیماریاں ہیں جن کا نتیجہ محتاجی اور افلاس کی شکل میں نکلتا ہے جب کہ حسن تدبیر، تحمل اور محنت شاقہ سے کام لے کر انسان عظمت کی رفعتوں کو پالیتا ہے۔

Q2. سبق محنت پسند خرد مند کا تعارف و پس منظر بیان کریں.

Ans 1: محمد حسین آزاد اردو کے نامور اور صاحب طرز انشا پر واز اور ادیب ہیں۔ وہ ایک عمدہ نظم گو اور نقاد بھی تھے۔ انہوں نے دہلی کے ممتاز اخبار نویس مولوی محمد باقر کے ہاں 01 جون 1830 کو آنکھ کھولی جنہیں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے قتل کر دیا۔

Ans 2: 1865 میں آزاد انجمن پنجاب کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ انہوں نے حالی کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعرے کرائے اور جدید شاعری کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1865 محکمہ تعلیم کے لیے نصابی کتب بھی لکھیں۔ کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور اور اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں فارسی اور عربی کے پروفیسر بھی رہے۔ آخر عمر میں اکلوتی بیٹی کی وفات اور دیگر صدموں کی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھے اور اسی حالت میں 1910 میں فوت ہوئے۔

Q3. اقتباس: "ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھوندا، اتار چڑھاؤ، ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں کا ایسا اظہر ہوا تھا کہ سب دفعتاً کمر میں باندھ، آنکھیں بند کر، دیمک کی طرح روئے زمین کو لپیٹ گئے۔" حوالہ متن تحریر کریں۔

Ans 1: حوالہ متن : سبق کا عنوان: محنت پسند خرد مند مصنف کا نام: محمد حسین آزاد

Q4. اقتباس: "ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھوندا، اتار چڑھاؤ، ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں کا ایسا اظہر ہوا تھا کہ سب دفعتاً کمر میں باندھ، آنکھیں بند کر، دیمک کی طرح روئے زمین کو لپیٹ گئے۔" سیاق و سباق تحریر کریں۔

Ans 1: سیاق و سباق: پرانے زمانے کی بات ہے جب انسان کا دامن گناہوں سے الودہ نہیں ہوا تھا۔ دھرتی پر نیک سیرت بادشاہ خسرو آرام حکومت کرتا تھا ہر طرف چین ہی چین تھا زمانے نے پلٹا کھایا۔ خود غرضی بڑھی، لوٹ مار اور ذخیرہ اندوزی ہونے لگی۔ تکبر، حسد اور بغض جیسی بیماریاں عام ہو گئیں۔ آسمان والے نے نعمتیں کم کر دیں۔ احتیاج اور افلاس نے اس طرح گھیرا کہ مخلوق بلبلاٹھی۔ لوگ اکٹھے ہوئے۔ تدبیر اور مشورے کے بعد وہ محنت پسند خرد مند کے در پر جا پہنچے محنت کے بیٹے کے پاؤں پڑے۔

Q5. مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔

Ans 1: ماضی: گزرا ہوا زمانہ۔ استقبال: مستقبل میں آنے والا دور۔ روایت کرنا: بیان کرنا۔ مسرت عام: ہر دم خوش باش۔ بے فکری مداہ: ہمیشہ کے لیے بے فکری۔ ملک: فراغ: ایسا ملک جہاں فارگ البالی کا دور دورہ ہو۔ خسرو: قدیم زمانے کا ایک مشہور اور بڑا بادشاہ۔ فرشتوں جیسا پاکیزہ اور بلند مرتبہ اطاعت: حکم ماننا

Q6. اقتباس: "ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھوندا، اتار چڑھاؤ، ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں کا ایسا اظہر ہوا تھا کہ سب دفعتاً کمر میں باندھ، آنکھیں بند کر، دیمک کی طرح روئے زمین کو لپیٹ گئے۔" تشریح کریں۔

Ans 1: تشریح: نادان انسانوں کا گروہ خرد مند کے پاس پہنچا تو ان کا پچھتاوا دیدنی تھا۔ ہمت اور تحمل کو ساتھ لے گئے تھے اس لیے اس کی سفارش بھی قبول ہوئی اور خرد مند نے انسانوں کی اس جماعت پر ان دونوں کو افسر مقرر کر دیا۔ اپنے افسروں کے کمان وہ کام کرنے لگے۔ ہمت سے وہ کام لیا اور بے صبری کا مظاہرہ بھی نہ کیا۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں پہنچ کر انہوں نے کام بانٹ لیا۔ کوئی گروہ پہاڑوں کو کھودتا رہا اور کئی کانیں کھود ڈالیں، معدنیات برآمد کیں۔ کوئی راستے ہموار کرنے لگا۔ سڑکیں بنائی جانے لگیں۔ پانی کے لیے تالاب بنادیں۔

Q7. مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں.

Ans 1: لبھایا: گرویدہ بنالیا۔ شوریت: کھاری پن - وابستہ تدبیر: تدبیر سے منسلک - منہ کا نوالا: آسان کام- ڈھب: انداز- تحمل: صبر و سکون۔ رنگ نکال لایا: خوب صورت بنادیا - گامزن: تیز چلنا، روائں رینا۔ داغ بیل ڈالنا: بنیاد رکھنا، آغاز کرنا، طرح ڈالنا

Q8. سبق محنت پسند خرد مند کی مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں.

Ans 1: خردمند: عقل مند۔ محنت پسند خرد مند: محنتی عقل، مند، یا ایسا دانا شخص جو سخت محنت کا عادی تھا۔ گلشن حال: زمانہ حال کے باغ۔ ماضی: گزرا ہوا زمانہ۔ استقبال: مستقبل آنے والا دور - روایت کرنا: بیان کرنا - پیراہن: لباس - مسرت عام: ہر دم خوش باش - انین: قانون، ضابطہ۔ درکار: مطلوب، ضرورت۔ ہرچند: اگرچہ - رجوع: رابطہ۔ معتقد: عقیدت مند۔ تحس قدم: ناپاک قدموں والا یعنی نحوست والا۔ ساگ پات: سبزیوں گزران: گزر اوقات، کزر بسر۔ لاچار: مجبور فقط سالی: خشک سالی۔ وبا: متعدی بیماری۔ امراض: بیماریاں غضب: بہت زیادہ شدید

Q9. مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں.

Ans 1: دامن کوہ: پہاڑ کے دامن۔ قوی پیکل: تندرست، توانا، مضبوط اور طاقت ور جسم منہ کا نوالا: آسان کام۔ مشقت: محنت۔ ریاضت - وابستہ تدبیر: تدبیر سے منسلک

Q10. محنت پسند خرد مند کا خلاصہ بیان کریں.

Ans 1: پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں ابھی انسانیت کا دامن گناہ کی آلودگی سے پا تھا اور یہ دھرتی بدی کے مفہوم سے ناواقف تھی۔ ایک نیک خصلت اور فرشتہ سیرت خسرو و آرام نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اس قدر رحم دل اور اک طینیت تھا کہ نہ عوام سے بیگار لیتا، نہ کوئی ٹیکس یا اور کسی قسم کی رام ان سے وصول کرتا۔ راوی ہر طرف چین لکھیتا۔ لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے باغوں کی سیر کرتے، ہر طرف آب حیات کے چشمے بہتے تھے اور لوگ اس میں نہاتے۔ ہر دم صبح کا سہانا سماں اور بہار کا موسم ہوتا - نہ گرمی کا ڈر نہ جاڑے کا خوف، چشموں کا پانی شربت سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ قوت بخش تھا۔ باد صبا اور نسیم سحری ہر طرف خوشبوئیں بکھیریں

Ans 2: پھر زمانے نے پلٹا کھایا اور لوگوں کے دلوں میں خود غرضی نے جنم لیا۔ ہر ایک یہ چاہنے لگا کہ عیش و آرام کے سامان صرف میرے لیے ہوں دوسروں کے پاس نہ ہوں۔ اس خود غرضی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سو مکرو فریب کا بازار گرم ہو گیا۔ جس کی لالٹھی اس کی بھینس اور جنگل کے قانون کا سامان ہو گیا

Ans 3: احتیاج اور افلاس سے نجات پانے کے لیے وہ دو تارک دنیا درویشوں کے پاس گئے۔ انہوں نے فرشتہ سیرت بادشاہ خسرو و آرام کی قدر نہیں کی اور اس کا شکر ادا نہیں کیا اللہ نے تم سے یہ نعمتیں واپس لے لیں۔ اب ان کے مشورے پر احتیاج و افلاس کے بیٹے محنت پسند خرد مند کے پاس جاکر داستان مصیبت سنائی۔ اس قوی پیکل اور کڑیل جوان نے پہلے تو ان کی نادانی اور عیش پرستی پر ڈانٹا پھر سب کو کام پر لگادیا